

5	לְמַעַן تاکہ	אֲשֶׁר جو	יָבִיאוּ لائیں	בְּנֵי بنی-	יִשְׂרָאֵל اسرائیل	אֶת- کو-	זְבַחֵיהֶם اپنی-قربانیاں-	אֲשֶׁר جو	הֵם وہ	זְבַחֵיהֶם ذبح-کرتے-ہیں-	עַל- پر-
	H4616	H0935	H3478	H0853	H2077	H1992	H2076				
	פָּנֵי چہرے	הַשָּׂדֶה میدان-کے	וְהַבְּיָאִים اور-لائیں-انہیں	לְיִהוּוָה یہوواہ-کے-لیے	אֶל- تک-	פֶּתַח دروازے	אֶהָל خیمہ	מוֹעֵד اجتماع-کے	אֶל- پاس-	הַכְּתָן کابن	וְזָבְחוּ اور-ذبح-کریں
	H6440	H0935	H3068	H0413	H6607	H0168	H4150	H0413	H3548	H2076	
	זְבַחֵי ذبیحوں	שְׁלָמִים سلامتی-کی	לְיִהוּוָה یہوواہ-کے-لیے	אֹתָם: انہیں							
	H2077	H8002	H3068	H0853							

خیمے کے ملاقات کو جانوروں اپنے وہ کریں۔ پیش کو رب بلکہ کریں نہ ذبح میں میدان کھلے قربانیاں اپنی سے اب اسرائیلی کہ ہے یہ مقصد کا ہدایت اس کریں۔ پیش پر طور کے قربانی کی سلامتی کو رب انہیں کر لا پاس کے امام پر دروازے کے

6	וְזָבַח اور-چھڑکے	הַכְּתָן کابن-	אֶת- کو-	הַדָּם خون-	עַל- پر-	מִזְבַּח قربان-گاہ	יְהוָה یہوواہ-کے	פֶּתַח دروازے-پر	אֶהָל خیمہ	מוֹעֵד اجتماع-کے	וְהִקְטִיר اور-جلائے
	H2236	H3548	H0853	H1818		H4196	H3068	H6607	H0168	H4150	
	הַחֵלֶב چربی-کو	לְרִיחַ خوشبو-کے-لیے	נִיחֹחַ پسنیدہ	לְיִהוּוָה: یہوواہ-کے-لیے							
	H2459	H7381	H5207	H3068							

ہے۔ پسند کو رب خوشبو کی قربانی ایسی دے۔ جلا پر اُس چربی کی اُن اور چھڑکے پر گاہ قربان کی پر دروازے کے خیمے کے ملاقات خون کا اُن امام

7	וְלֹא- اور-نہ-	יִזְבְּחוּ ذبح-کریں	עוֹד پھر	אֶת- کو-	זְבַחֵיהֶם اپنی-قربانیاں	לְשִׁעִיָּם بکروں-کے-لیے	אֲשֶׁר جن-کے	הֵם وہ	זָנִים زناکاری-کرتے-ہیں	אֲחֵרֵיהֶם پیچھے-ان-کے
	H3808	H2076	H5750	H0853	H2077		H1992	H1192	H2181	
	חֲקַת فریضہ	עוֹלָם ابدی	תְּהִיָּה- ہو-	זֶאת یہ	לָהֶם ان-کے-لیے	לְדֹרֹתָם: ان-کی-پشتوں-میں				
	H2708	H5769	H1961	H2063	H1992	H1755				

والی آنے بعد کے اُن اور لئے کے اُن یہ ہے۔ کیا زنا نے انہوں کے کر بیروی کی جن کریں نہ پیش کو دیوتاؤں کے بکروں اُن قربانیاں اپنی اسرائیلی سے اب ہے۔ اصول دائمی ایک لئے کے نسلوں

8	וְאֵלֶיהֶם اور-ان-سے	תֹּאמְרוּ کہہ	אִישׁ آدمی	אִישׁ آدمی	מִבֵּית گھرانے-سے	יִשְׂרָאֵל اسرائیل	וּמִן- اور-سے-	הַנָּהָר پردیسی	אֲשֶׁר- جو-	יָנֹוד رہتا-ہے	בְּתוֹכָם ان-کے-بیچ-میں
	H0413	H0559	H0376	H0376	H3478	H1616		H1616			H8432
	אֲשֶׁר- جو-	יַעֲלֶה چڑھائے	עֹלָה سوختنی-قربانی	אוֹ- یا-	זְבַח: ذبیحہ						
		H5927			H2077						

قربانی اور کوئی یا قربانی والی ہونے بھسم اپنی پردیسی والا رہنے درمیان تمہارے اور اسرائیلی پر کہ ہے لازم

9	וְאֶל- اور-تک-	פֶּתַח دروازے	אֶהָל خیمہ	מוֹעֵד اجتماع-کے	לָא نہ	יָבִיאוּ لائے-اسے	לְעֵשׂוֹת کرنے-کے-لیے	אֹתוֹ اسے	לְיִהוּוָה یہوواہ-کے-لیے	וְנִכְרְתוּ اور-کاٹ-دیا-جائے
	H0413	H6607	H0168	H4150	H3808	H0935		H0853	H3068	H3772
	הָאִישׁ آدمی-	הַהוּא وہ	מֵעִמּוֹ: اپنے-لوگوں-سے							
	H0376	H1931								

گا۔ جائے مٹایا سے میں قوم کی اُس اُسے ورنہ کرے۔ پیش کو رب کر لا پر دروازے کے خیمے کے ملاقات

10	וְאִישׁ	אִישׁ	מִבְּרִית	יִשְׂרָאֵל	וּמִן-	הַגֵּר	הַגֵּר	בְּתוֹכָם	אֲשֶׁר	יֹאכֵל	כָּל-
	اور-آدمی	آدمی	گھرانے سے	اسرائیل	اور سے-	پر دیسی-	جو رہتا ہے	ان کے بیچ میں	جو	کھائے	کوئی-
	H0376	H0376	H3478	H3478	H1616	H1616	H8432	H0398	H3605	H0398	H3605

خون	اور-لگاؤنگا میں	اپنا چہرہ	جان کے-خلاف-	جو کھاتی ہے	کو	خون-	اور-کاٹ-دوہنگا میں	اتھا	اسے
H1818	H5414	H6440	H5315	H0398	H0853	H1818	H3772	H0853	H0853

مִקְרָב
بیچ سے
اس کے-لوگوں کے
[H7130](#)

سے میں قوم کی اُسے اور گا جاؤں ہو خلاف کے اُس میں کھائے خون پر دیسی والا رہنے درمیان تمہارے یا اسرائیلی بھی جو ہے۔ منع بالکل کھانا خون گا۔ ڈالوں مٹا

11	כִּי	יָנֵשׁ	הַבֶּשֶׂר	בְּדָם	הוּא	וְנָתַן	לְכֶם	עַל-	הַמִּזְבֵּחַ
	کیونکہ	جان	گوشت کی	خون میں-	ہے	اور میں	دیا ہے-اسے میں نے	تمہیں	پر-
	H5315	H1320	H1818	H1931	H0589	H5414	H4196	H4196	H4196

کفارہ دینے کے لیے	پر-	تمہاری جانوں	کیونکہ-	خون-	وہ	جان سے-	کفارہ دیتا ہے	یִכְפֹּר:
H5315	H5315	H1818	H1931	H5315	H1818	H1931	H5315	H5315

ذریعے کے جان اُس ہی خون کیونکہ دے۔ کفارہ تمہارا پر گاہ قربان وہ تاکہ ہے دیا دے تمہیں اُسے نے میں ہے۔ جان کی اُس میں خون کے مخلوق ہر کیونکہ ہے۔ دیتا کفارہ تمہارا ہے میں اُس جو

12	עַל-	כֶּן	אֲמַרְתִּי	לְבָנִי	יִשְׂרָאֵל	כָּל-	נֶפֶשׁ	מִכֶּם	לֹא-	תֹאכֵל	דָּם
	پر-	اس	کہا میں نے	بنی سے	اسرائیل	کوئی-	جان	تم میں سے	نہ-	کھائے	خون
	H0559	H3478	H3605	H5315	H3808	H3605	H3808	H3808	H3808	H0398	H1818

اور-پر دیسی-	جو رہتا ہے	تمہارے بیچ میں	نہ-	کھائے	خون	دے
H1616	H8432	H3808	H3808	H0398	H1818	H1818

کھائے۔ خون پر دیسی کوئی نہ اسرائیلی کوئی نہ کہ ہوں کہتا میں لئے اس

13	וְאִישׁ	אִישׁ	מִבְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	וּמִן-	הַגֵּר	הַגֵּר	בְּתוֹכָם	אֲשֶׁר	יִצְוֶה
	اور-آدمی	آدمی	بنی سے	اسرائیل	اور سے-	پر دیسی-	جو رہتا ہے	ان کے بیچ میں	جو	شکار کرے
	H0376	H0376	H3478	H3478	H1616	H1616	H8432	H0398	H3605	H3605

شکار	جانور کا	یا-	پرنده	جو	کھایا جائے	اور بہائے	کو	اس کا خون	اور ڈھائیے اسے	مٹی سے
H1818	H3605	H1320	H5775	H0398	H8210	H0853	H1818	H3680	H6083	H6083

خون پورا کا اُس بعد کے کرنے ذبح اُسے وہ تو ہے اجازت کی کھانے جسے پکڑے کے کر شکار کا پرنده یا جانور کسی پر دیسی یا اسرائیلی بھی کوئی اگر ڈالے۔ مٹی پر خون اور دے بہنے پر زمین

14	כִּי	נֶפֶשׁ	כָּל-	בֶּשֶׂר	דָּמוֹ	הוּא	בְּנֶפֶשׁוֹ	וְאִמַּר	לְבָנִי	יִשְׂרָאֵל
	کیونکہ-	جان	بر-	گوشت کی	اس کا خون	اس کی جان میں	ہے	اور کہا میں نے	بنی سے	اسرائیل
	H5315	H3605	H1320	H1818	H5315	H1931	H0559	H3478	H3478	H3478

خون کسی-	گوشت کا	نہ	کھاؤ	کیونکہ	جان	بر-	گوشت کی	اس کا خون	ہے	بر-
H1818	H3605	H1320	H3808	H0398	H5315	H3605	H1320	H1818	H1931	H3605

אֲכִלּוּ
کھانے والے اس
کاٹ دیا جائے گا
[H3772](#)

ہے، جان کی اُس خون کا مخلوق ہر کھاؤ۔ نہ خون کا مخلوق بھی کسی کہ ہے کہا کو اسرائیلیوں نے میں لئے اس ہے۔ جان کی اُس خون کا مخلوق ہر کیونکہ ہے۔ دینا مٹا سے میں قوم اُسے کھائے اُسے بھی جو اور

15	וְכַל-	זָפֵשׁ	אֲשֶׁר	הַזֶּכֶל	נִבְלָה	וּמְרָפָה	בְּאֲזָח	וּבְגֵר	וְכִס	בְּנִדְיוֹ
	اور-ہر-	جان	جو	کھائے	مردار	اور-پھاڑا-ہوا	باشندے-میں-	اور-پردیسی-میں	اور-دھوئے	اپنے-کیڑے
	H3605	H5315		H0398	H5038	H2966	H0249	H1616	H3526	
	וְרַחֵץ	בְּמֵי	וְטָמֵא	עַד-	הָעֶרֶב	וְטָהֵר:				
	اور-نہائے	پانی-میں	اور-ناپاک-ہو	تک-	شام-کے	اور-پاک-ہو				
	H7364	H4325		H5704	H6153	H2891				

کر دھو کیڑے اپنے وہ تو بو ڈالا پھاڑ نے جانوروں جنگلی جسے یا گیا مر پر طور فطری جو کھائے گوشت کا جانور ایسے پردیسی یا اسرائیلی بھی کوئی اگر گارے ناپاک تک شام وہ لے۔ نہا

16	וְאִם	לֹא	יִכְבֹּס	וּבְשָׂרוֹ	לֹא	יִרְחֹץ	וְנָשָׂא	עוֹנָו:	ב
	اور-اگر	نہ	دھوئے	اور-اپنا-جسم	نہ	نہائے	اور-اٹھائے	اپنی-بدکاری	-
	H3808	H3808	H3526	H1320	H3808	H7364	H5375	H5771	

گی۔ پڑے بھگتنی سزا کی قصور اپنے اُسے کرتا نہیں ایسا جو